

ایمروز جنگی سروز اکیڈمی میں ٹریننگ کیلئے ہدایات

ضلع اتحادی

ولدیت

اسلام علیکم محترم

آپ کو مطلع کیا جاتا ہے کہ آپ کو پنجاب ایمروز جنگی سروز، ریکسیو 1122 میں بطور (ٹریننگ) میں بھرتی کیا گیا ہے۔ آپ ٹریننگ کیلئے مندرجہ ذیل مکمل کاغذات کے ہمراہ مورخہ بوقت صبح 8 بجے تا شام 6 بجے ایمروز جنگی سروز اکیڈمی ریکسیو 1122، ٹھوکر بیاز بیگ، نزد جناح بس ٹریننگ موڑے باقی پاس، لاہور میں حاضر ہوں۔

1- مطلوبہ کاغذات۔ کیڈس اٹرینی مندرجہ ذیل کاغذات اپنے ہمراہ لائیں گے اور رجسٹریشن کے وقت جمع کروائیں گے۔

2- اصل شناختی کارڈ اور قدریتی شدہ کاپی۔ ب- والد اسر پرست کے شناختی کارڈ کی مصدقہ کاپی۔ جواننگ آرڈر

3- 12 عدد پاسپورٹ سائز تصاویر (1x1 فوٹوگراف) (نیلا بیک گاؤنڈ)

4- صحبت اور حادثات سے متعلقہ قانونی ذمہ داری سے سبک دوشی کا فارم (لفہدا)

5- استقلالیہ۔ تمام کیڈس اٹرینی دیئے گئے وقت اور تاریخ کے مطابق ایمروز جنگی میں روپرٹ کریں گے۔ استقلالیہ ڈیک کیڈس بلاک میں ڈائیننگ ہال کے پاس بنایا جائے گا۔

3- برائے رابطہ و معلومات۔ اکیڈمی کٹرول روم۔ 042-35131870

4- کیڈس اٹرینی کی جانچ پرستاں:

اکیڈمی میں ٹریننگ کی غرض سے آنے والے تمام کیڈس کو ٹریننگ کے پہلے ہفتے میں سکریننگ کے طریقہ کار سے گزرا ہوگا۔ اس مقصد کیلئے مندرجہ ذیل پہلوؤں کی جانچ پرستاں کی جائے گی۔

5- موتاپا/ زیادہ وزن ب- پرانی پیچیدہ پیماری ج- معدوری

6- شیشزدی اکیڈمی کیڈس میٹریل: تمام کیڈس شیشزدی سے متعلقہ تمام اشیاء مثلاً کاپی، پین، کاغذ، امتحانی گتہ اور فائل کورا پسے ہمراہ لائیں گے۔ ٹریننگ سے متعلقہ تمام کتابیں بجوض ادا نہیں اکیڈمی جزوی شور پر دستیاب ہیں۔

7- واجبات: تمام کیڈس کھانا، لانڈری، چام، طبی معائنہ، اسناد کی تصدیق، سروں بک کی تیاری اور دیگر روزمرہ کے ذاتی اخراجات کیلئے مناسب مقدار میں رقم ہمراہ لائیں گے۔

8- مندرجہ ذیل اشیاء کیڈس اپنے ہمراہ لائیں گے

لو ہے کاڑنک ابریف کیس سفید شلوار قیص (جمعہ کیلئے) بعد سفید جاہی دار ٹوپی

ذاتی سامان (ٹوٹھ برش، پیسٹ، ناخن کٹر وغیرہ) پیٹی شوٹ/ جوگرز، سیاہ رنگ

�ابن بعده صابن دانی جرائیں سیاہ 4 جوڑے

9- مندرجہ ذیل اشیاء بجوض نقد ادا نہیں اکیڈمی شور پر دستیاب ہوں گی۔

ریسکیو کاڑیک سوٹ (ٹی شرت، ٹراؤزر، وغیرہ) سیفٹی گلگز (Safety Goggles)

پی راشوت بیگ (Parachute) (Elbow Pads)

لیڈر کے دست انہیں سیفٹی شوٹ (Safety Rope) (Swimming Costume)

لباس تراکی (Swimming Costume)

10- رخصت:

☆ رخصت کسی بھی کیڈس کا حق نہیں ہے۔ کسی بھی ایمروز جنگی ڈیوٹی یا حادثہ کی صورت میں چھٹی منسون کی جاسکتی ہے۔ دوران تربیت کسی کیڈس کو کسی قسم کے امتحانات انتڑو یو کیلئے رخصت نہیں دی جائے گی۔ کوئی بھی ٹرینی یا کیڈس آفسر اپنے اچارن اہیڈ آف ٹریننگ ونگز ارجمنڈ اڈا ایکٹر جزل کی پیٹی ایجاد کے بغیر اکیڈمی سے باہر نہیں جاسکتا۔

☆ رخصت بیماری امید یکلر رخصت کی صورت میں اگر چھپیوں کی کل تعداد 10 یا 10 سے زیادہ ہو تو مطلوبہ کی کوپورا کرنے کیلئے 1 ماہ کی اضافی تربیت پاسنگ آؤٹ کے بعد کرنی ہوگی۔

☆ اکیڈمی میں دوران تربیت کوئی ٹرینی اپنے ادوس رے ڈیپارٹمنٹ میں اعلیٰ عہدے اپسوٹ کیلئے اپالائی نہیں کرے گا اور نہیں اس ضمن میں کوئی چھٹی دی جائے گی۔

☆ فیملی ایمروز جنگی کی صورت میں چھٹی کافیصلہ کمائنڈر کی طرف سے مکمل قدریتیں کے بعد ہوگا۔

11- غیر حاضری:

☆ ہر کیڈس ٹریننگ کے ہر پیریڈ میں اپنی حاضری کو لیٹنی بنائے گا۔ کسی ایک پیریڈ سے غیر حاضری پورے دن کی غیر حاضری تصور ہوگی۔

☆ غیر حاضری کی صورت میں سخت انضباطی کارروائی بہمool اضافی جسمانی تربیت اور نائب ڈیوٹی، جس کا دورانیہ کم از کم ایک ہفتہ ہوگا، دی جاسکتی ہے۔ اور اس کے بعد کیڈٹ کو پوری ٹریننگ کے دورانِ اکیڈمی سے باہر نہیں بھیجا جائے گا۔

☆ 6 دن سے زائد غیر حاضری کی صورت میں ٹرینی کو اکیڈمی سے خارج کر دیا جائے گا۔

12- لفظ و ضبط اڈپلن: اگر کوئی ٹرینی اکیڈمی میں مروجہ قوانین و روایات کی خلاف ورزی کا مرتكب پایا گیا تو مندرجہ بالا سزا کا مستحق ہوگا جس کا نتیجہ اکیڈمی سے اخراج کی صورت میں نکل سکتا ہے۔

13- عمومی ہدایات:

☆ کسی بھی کیڈٹ کو کسی بھی صورت میں اکیڈمی سے باہر ہاش رکھنے کی اجازت نہ ہے۔ صرف ہفتے کے آخر میں جزوی رخصت اجازت کے ساتھ حاصل کی جاسکتی ہے۔ اکیڈمی میں ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایڈمن بلاک اور وفاتر میں بلا ضرورت اور استاد کے بغیر کیڈٹس کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ملاقاتی / مہمان کو اکیڈمی اکروں میں قیام کی اجازت نہیں ہوگی۔

☆ معمومہ مشروبات، نشیات اکیڈمی میں سختی سے منوع ہیں۔ سگریٹ انسوار، پان وغیرہ اکیڈمی احاطہ میں سوائے کینٹین ایریا کے سختی سے منوع ہیں۔ ذاتی ہیٹر، چولہا، برقی آلات، ایر کنڈیشنر وغیرہ رہائشی کروں میں استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تربیت کے اوقات کار میں کیڈٹس کیلئے موبائل فون کا استعمال سختی سے منوع ہے۔

☆ چپل، سپر زصرف کروں میں پہننے کی اجازت ہے۔ ڈائینگ ہال یا ٹریننگ ایریا میں چل کر جانا منوع ہے۔ تکہ اشارش پہن کر کروں کے باہر گھونمنٹ سے منوع ہے۔ رات کے کھانے کے دوران شلوار قمیص، پشاوری چپل، بوث پین کرڈ اینگ ہال میں جانے کی اجازت ہوگی۔ رہائشی کروں کی لاٹس رات 0930 سے لیکر صبح 0430 تک بند رہیں گیں۔

☆ کسی ٹرینی کو اکیڈمی میں مہنگی اشیاء مثلاً زیورات، کلامی گھری، موبائل وغیرہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اقصان کی صورت میں خود مدد وار ہوگا۔ ذاتی گاڑی، موثر سائکل اکیڈمی میں لانے کی صورت میں سیکورٹی گیٹ پر اپنی گاڑی کا اندر اراج اور کاغذات کی نقول جمع کروانی ہوں گی۔

☆ امتحانات میں نقل، چوری، بڑائی جھگڑا، ہاتھی گلوچ کی صورت میں سخت محکماۃ کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور ٹریننگ سے خارج کر دیا جائے گا۔

14- ٹریننگ اکاؤنٹ کا دورانیہ:

کام	نمبر شمار	وقت	دورانیہ	کام	نمبر شمار
وقتہ برائے نماز اور پھر کھانا	7	0600-0645	45 منٹ	صحیٰ ٹی، جسمانی تربیت	1
پریکٹیکل	8	0645-0745	1 گھنٹہ	ناشترے کا وقت	2
جسمانی تربیت میں کمزوز طلباء کیلئے تربیتی پیریڈ	9	0800-0845	45 منٹ	ڈرل اپریڈ	3
رات کا کھانا	10	0900-1030	1 گھنٹہ اور 30 منٹ	پیکھر	4
جمعہ المبارک کیلئے وقفہ	11	1030-1100	30 منٹ	چائے کا وقت	5
	12	1100-1300	2 گھنٹہ	پریکٹیکل	6

15- روزانہ ٹریننگ کا نامہ مثیل:

وقت	کام	نمبر شمار	وقت	دورانیہ	کام	نمبر شمار
1300-1430	وقتہ برائے نماز اور پھر کھانا	7	0600-0645	45 منٹ	صحیٰ ٹی، جسمانی تربیت	1
1430-1630	پریکٹیکل	8	0645-0745	1 گھنٹہ	ناشترے کا وقت	2
1640-1710	جسمانی تربیت میں کمزوز طلباء کیلئے تربیتی پیریڈ	9	0800-0845	45 منٹ	ڈرل اپریڈ	3
1930-2030	رات کا کھانا	10	0900-1030	1 گھنٹہ اور 30 منٹ	پیکھر	4
1230-1500	جمعہ المبارک کیلئے وقفہ	11	1030-1100	30 منٹ	چائے کا وقت	5
		12	1100-1300	2 گھنٹہ	پریکٹیکل	6

ایمروجنی سروسز اکیڈمی، ریسکیو 1122، لاہور

صحت اور حفاظت سے متعلقہ حادثات کی قانونی ذمہ داری سے سبک دوشی کافارم

تصویر چھپا کریں

کورس میں شمولیت کی تاریخ:

صلح:

بیسک کورس نمبر:

ولدیت:

نام:

جنس: مرد عورت

تاریخ پیدائش:

عہدہ:

شناختی کارڈ نمبر:

خون کا گروپ:

ایمروجنی کی صورت میں:

گھر کا پتہ:

رابطہ نمبر:

نام:

رشته:

رابطہ نمبر:

نام:

رشته:

ای میل:

کیا آپ کو کسی قسم کی دوسرے ارجمندی ہے یا اداکار نے آپ کو کوئی چیز استعمال کرنے سے منع کیا ہوا ہے؟ ہاں نہیں

اگر کوئی ہے تو بیان کریں:

کیا آپ کا کسی قسم کا علاج چل رہا ہے یا کوئی دوستہ استعمال کر رہے ہیں یا کوئی جسمانی محدودی ہے؟ ہاں نہیں

اگر کوئی ہے تو بیان کریں:

کیا گزر شستہ 1 سال میں آپ کوئی آپریشن ہوا ہے یا کسی تین یا چاری کاشکار ہے ہیں۔

اگر کوئی ہے تو بیان کریں:

کیا آپ سگریٹ، پان، نسوار یا کوئی آر نشا اور چیز استعمال کرتے ہیں؟

کیا آپ کو کسی خوراک اغذیہ سے پرہیز ہے؟

اگر کوئی ہے تو بیان کریں:

قانونی ذمہ داری سے سبک دوشی:

☆ میں بھائی ہوش و حواس حلقواً اقرار کرتا / کرتی ہوں کہ میں ادارہ بندہ اکی طرف سے بتائے گئے اس ترمیتی پروگرام کے ہر طبق مجوزہ خانہ بیتی معیار کی تسلیم کروں گا / گی اور جتنی سے اس پر کاربندر ہوں گا / گی۔

مزید بر اس میں حلقواً اقرار کرتا / کرتی ہوں کہ میں دوران تربیت اپنی صلاحیت کے مطابق اپنی اور اپنی ساتھیوں کی حفاظت کو لینی بنانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا / گی۔

☆ یہ کہ میں تسلیم کرتا / کرتی ہوں کہ ایمروجنی سروسز اکیڈمی کی انتظامیہ، ترمیتی و معاون عملہ نے دوران تربیت مکانہ حادثہ، یا جسمانی نقصان سے بچاؤ کے ہر ممکن خانہ بیتی اقدامات اقتیار کر رکھے ہیں۔

☆ یہ کہ میں تسلیم کرتا / کرتی ہوں کہ میں ادارہ بندہ اکی طرف سے بتائے گئے ان تمام خطرات سے تکمیل طور پر آگاہ ہوں جو کہ دوران تربیت ایمروجنی سروسز اکیڈمی میں میرے ساتھ ہیں آئکتے ہیں اور ممکنہ طور پر

کسی چھوٹے یا بڑے حادثہ کا سبب بن کر مجھے یا میرے ساتھی کو جسمانی طور پر زخمی / محدود یا یا کسی یا جان لیواحدائے کا سبب بن سکتے ہیں۔

☆ اور یہ کہ میں دوران تربیت یا تربیت کے بعد کسی اتفاقی حادثہ کے نتیجے میں لگنے والی چوٹ اپنی ایباری ازخم / محدودی یا جان لیواحدائے کی صورت میں، پنجاب ایمروجنی سروسز ایمروجنی سروسز اکیڈمی کی

انتظامیہ اور میں عملہ یا معاونین کو قانونی طور پر اس سے بری الذمہ سمجھتا / سمجھتی ہوں اور اس ضمن میں کسی بھی قسم کی قانونی چارہ جوئی کا حق نہیں رکھتا ارکھتی۔

نوت: میں حلقواً اقرار کرتا / کرتی ہوں کہ اس فارم میں میرا کی گئی تمام معلومات میرے علم کے مطابق تکمیل اور درست ہیں اور کسی بھی قسم کی غلط یا بیانی کی صورت میں ممکنہ تباہی کا میں خود ذمہ دار ہوں گا / گی۔

تاریخ:

نشان انگوٹھا:

دستخط (ٹرینی ٹریکسپور):

تاریخ:

نشان انگوٹھا:

دستخط (سر پرست):